

ٹیم اپ ہونے کے لیے مستعد ہو جائیں: ایک مضبوط تعلیمی سال کے لیے 5 تجاویز

والدین اور اساتذہ متفق ہیں کہ ہمیں ملکر کام کرنے (ٹیم ورک) اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ملکر تعلقات قائم کریں۔



1 معلوم رہے کہ آپ کی آواز کی ضرورت ہے۔

والدین انکے بچوں کی پیشرفت کیسے جا رہی ہے کے بارے میں حقیقت اور ایک صحیح تصویر جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے انکی تدریس کے بارے میں جو کچھ دیکھا / محسوس کیا بتائیں اور سوالات کرنے سے گھبرائیں نہیں (چاہے آپکو بار بار پوچھنا پڑے)۔ اپنے بچے کے استاد کو بتائیں کہ آپ تک رسائی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور سال بھر صرف اجلاسوں میں ہی نہیں بلکہ متواتر رابطے میں رہنے کا ایک منصوبہ ترتیب دیں۔



3 ایک سادہ منصوبے کے لیے ٹیم میں شامل ہوں۔

طلبا سال کے شروع میں 'ہدف کی نشاندہی' کے لیے امتحانات لیتے ہیں تاکہ اساتذہ کو معلوم کرنے میں مدد مل سکے کہ ان کو کہاں معاونت کی ضرورت ہے۔ معلوم کریں کہ آپ کے بچے کے گریڈز کی سطح کی کس طرح پیمائش کی جائیگی اسکی اطلاع کلاس روم تدریس کو کس طرح ہوگی اور آپ گھر پر کیا کر سکتے ہیں۔ استاد کے ساتھ ملکر ایک منصوبہ تشکیل دیں جس میں اہم صلاحیتوں پر توجہ مرکوز رہے اور گھر اور اسکول میں تدریسی وقت کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔



5 یاد رہے، آپ علمی استعداد کے ایک ہیرو ہیں!

آپ پچھلے دو سالوں میں اپنے بچے کے لیے ناقابل یقین قوتوں کے حامل ہونے کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ دیگر والدین سے گھر پر تدریس کے بارے میں تجاویز مانگیں اور بتائیں کہ آپ کے لیے کیا کارآمد رہا ہے۔ بطور ایک خاندان ان موضوعات کے بارے میں مطالعہ کریں جن میں آپ کے بچے کو دلچسپی ہو۔ روزانہ کی زندگی میں ریاضی تلاش کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے خاندان کی کامیابیوں پر خوشیاں منائیں۔

مستعدی کی جانچ

2 پیش رفت کی ایک از خود جانچ کریں

اس سال کا آغاز جائزہ اور نئے مواد کا ایک امتزاج ہے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ معلوم کیا جائے کہ کیا آپ کے بچے نے انکے نئے گریڈ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ریاضی کے اہم نکات اور مطالعے کی صلاحیتیں سیکھ لی ہیں۔ مستعدی کی جانچ استعمال کریں اور وڈیوز اور سرگرمیوں میں ان صلاحیتوں میں گھر پر مدد حاصل کرنے کے لیے معلوم کریں اور رابطے میں رہیں۔



4 آپ کا بچہ کیسے محسوس کر رہا ہے اس پر نرم دلی سے توجہ دیں۔

گھر میں آپ جن اہم صلاحیتوں کو فروغ دے رہے ہیں، جیسے مسائل سلجھانا، محنت اور اعتماد سے کام کرنا، اس سے آپکے بچے کو مشکل لمحات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اپنے بچے سے معلوم کریں کہ وہ اپنے بارے میں، انکی دوستیوں اور اپنے گرد دنیا کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ حسب ضرورت اپنی برادری میں آن لائن مدد تلاش کریں۔